



## SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release  
For immediate Release  
August 27, 2016

### **Corporate governance rules for public sector companies being improved**

ISLAMABAD, August 27: The Securities and Exchange Commission of Pakistan has issued the draft of amendments to the Public Sector Companies (Corporate Governance) Rules, 2013, to obtain feedback from the stakeholders and the public. Based on the implementation experience as well as feedback received from the line ministries of public sector companies and other stakeholders, it was deemed necessary to introduce certain amendments to the rules to facilitate compliance and ensure to good corporate governance principles. The public sector companies are significant economic players delivering critical services in important economic sectors.

With the approval of the federal government, the SECP issued these rules in 2013. The rules were aimed at improving the governance of PSCs through a range of measures, including empowering the board of directors, facilitating the government to exercise its ownership function, strengthening the internal control mechanism, etc. The provisions which have been proposed to be amended or added to the rules includes introduction of criteria for sound and prudent management of public sector companies, change in the proportion of independent directors on the boards from a majority to a minimum of one-third, specifying additional grounds for removal of non-performing directors, revision of criteria for appointment of chairman and chief executive, requirement for the government to enter into performance contracts with directors at the time of their appointment, optimization of fit and proper criteria for the directors, etc.

It is hoped that the proposed amendments will improve standards of good corporate governance in public sector companies by facilitating them in improving their performance, minimizing political interference in the management, ensuring proper and effective use of public assets and resources, and maintaining a balance between public service delivery and profitability. The proposed amendments are available for reference at [www.secp.gov.pk](http://www.secp.gov.pk)

## پبلک سیکٹر کمپنیوں کے لئے کارپوریٹ گورننس کے قواعد میں بہتری

اسلام آباد، ۲۶ اگست: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے سٹیک ہولڈرز اور عوام سے آراء حاصل کرنے کے لئے پبلک سیکٹر کمپنیز کے قواعد ۲۰۱۳ میں ترامیم کا مسودہ جاری کر دیا۔

مروجہ قواعد پر عمل درآمد کے تجربہ کو سامنے رکھتے ہوئے پبلک سیکٹر کمپنیوں (پی ایس سیز) کی متعلقہ وزارتوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی آراء کی بنیاد پر تعمیل میں آسانی کو یقینی بنانے کے لئے یہ ضروری تھا کہ قواعد میں بعض ترامیم لائی جائیں۔ پبلک سیکٹر کمپنیاں معیشت کا ایک نمایاں جزو ہیں جو معاشی شعبوں میں اہم خدمات انجام دے رہی ہیں۔

ایس ای سی پی نے وفاقی حکومت کی منظوری سے یہ قواعد جاری کئے تھے۔ ان قواعد کا مقصد متعدد اقدامات، جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بااختیار بنانا، حکومت کو اپنے اوئرشپ فنکشنز کے استعمال میں آسانی، داخلی کنٹرول کے نظام کو مستحکم بنانے، وغیرہ کے ذریعے پی ایس سیز کے نظم و نسق میں بہتری لانا تھا۔

وہ قواعد جن میں ترامیم یا قواعد میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے ان میں پبلک سیکٹر کمپنیوں کو جلانے کے لئے بہتر معیار متعارف کرانا، بورڈ میں غیر جانبدار ڈائریکٹرز کے تناسب میں اکثریت سے ایک تہائی میں تبدیلی، ڈائریکٹرز کا کام میں غفلت پر برطرفی کی مزید بنیادوں کی صراحت، چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کے تقرر کے شرائط پر نظر ثانی، ڈائریکٹرز کے تقرر کے وقت حکومت کو مطلوب پرفارمنس کو ملازمت کے معاہدہ کا حصہ بنانا، اور ڈائریکٹر کے لئے شرائط کا بہتر معیار مقرر کرنا ہے۔

توقع کی جاتی ہے کہ مجوزہ ترامیم کے ذریعے پبلک سیکٹر کمپنیوں کی کارکردگی میں بہتری، مناسطت میں سیاسی مداخلت کم کرنے، عوامی سرمایہ اور وسائل کا موزوں اور مؤثر استعمال اور عوام کو خدمات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان خدمات کو منافع بخش رکھنے کا انتظام ہو سکے گا۔ مجوزہ ترامیم [www.secp.gov.pk](http://www.secp.gov.pk) پر دستیاب ہیں۔